

برائے فوری اجراء

## بہتر ہے کہ آپ اس پر BEElieve کریں! برامپٹن کو باضابطہ طور پر ایک بی سٹی (Bee City) ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے

برامپٹن، آن (16 جون 2021) – برامپٹن کو Bee City Canada کی جانب سے باضابطہ طور پر اپنے نئے ترین Bee City کے طور پر تسلیم کر لیا ہے!

Bee City کی حیثیت سے، سٹی آف برامپٹن زرگل منتقل کرنے والے حشرات، بشمول شہد کی مکھیوں اور تئلیوں کی افزائش کے لیے پر عزم ہے۔ اس میں زرگل منتقل کرنے والے حشرات کی رہائش کی جگہیں بنانا اور انہیں برقرار رکھنا، رہائشیوں کو ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا اور انٹرنیشنل پولینیٹر ویک (21-27 جون) کو زرگل منتقلی کے حامل حشرات کے طور پر منانا شامل ہے۔

Bee City ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، سٹی آف برامپٹن کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ شہر کے قدرتی ورثہ کے نظام کو تحفظ فراہم کرنے اور اس کے فروغ کے لیے اپنی اہم کوششوں کو وسعت دے کر انہیں مستحکم کرے۔ سٹی آف برامپٹن کا شمار پورے کینیڈا سے یہ اعزاز حاصل کرنے والی 50 سے زیادہ میونسپلٹیز میں ہو گیا ہے۔

برامپٹن کے Bee City اعزاز کو [برامپٹن گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان](#)، [پارکس اینڈ ریکرییشن ماسٹر پلان](#)، [نیچرل بیرٹیج اینڈ انوائرنمنٹل منیجمنٹ سٹریٹیجی \(NHMS\)](#) اور [برامپٹن ایکوی پارک سٹریٹیجی](#) کی معاونت حاصل ہے۔

### تعداد کے لحاظ سے

- سٹی کے پاس موجودہ طور پر 17 عدد وقف شدہ پولینیٹر بیڈز اور 706 عدد پیرینیل بیڈز موجود ہیں جو زرگل منتقلی کے حشرات کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔
- 2002 کے بعد سے اب تک [برامپٹن ویلی اینڈ پارکس نیچرلائزیشن پروگرام](#) کے ذریعے 220 ہیکٹر رقبے کو قدرتی ماحول میں ڈھالا گیا ہے اور ان میں مقامی نباتات، جھاڑیوں اور درختوں کی افزائش کی گئی ہے جو زرگل منتقلی کے حشرات کے لیے غذا اور ان کے رہنے کے لیے پرکشش ماحول پیدا کرتے ہیں۔
- 2018 سے اب تک [ٹونٹ مو، لیٹ اٹ گرو \(Don't Mow, Let it Grow Program\)](#) کے ذریعے بیکار قسم کے گھاس اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل تقریباً 21 ہیکٹر رقبے کو شاندار [چراگاہوں](#) اور پولینیٹر گارڈنز میں تبدیل کیا گیا ہے۔

### انٹرنیشنل پولینیٹر ویک (21-27 جون)

21-27 جون تک پولینیٹر ویک منایا جا رہا ہے! ہمارے ساتھ ایسی ورچوئل سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں جن میں زرگل منتقلی کے حامل حشرات پر مبنی خزانوں کی تلاش پر انعامات، ڈاؤن لوڈ کے قابل رنگین صفحات، وسائل اور دریافت کرنے کے حقائق اور دیگر بہت کچھ شامل ہیں۔ تفصیلات کے لیے [www.brampton.ca/pollinators](http://www.brampton.ca/pollinators) ملاحظہ کریں۔

### Bee City Canada کے بارے میں

2016 میں قائم کردہ، [Bee City Canada](#) وفاق کی جانب سے ایک تسلیم شدہ وفاقی ادارہ ہے جس کا مقصد کینیڈا کے لوگوں کو زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا ہے اور ان حشرات کے رہنے کی جگہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ تنظیم کمیونٹیز اور تنظیموں کی باہمی تعاون کی کاوشوں کی حمایت کرتی ہے اور چار اقدامات کی پیشکش کرتے ہوئے زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی معاونت کے لیے پر عزم ہے۔ یہ چار اقدامات درج ذیل ہیں: بی سٹیز، بی پارٹنرز، بی سکولز اور بی کیمپس۔

### اقتباسات

"ہم ایک Bee City بننے پر فخر محسوس کر رہے ہیں! برامپٹن کا شمار Bee City کا اعزاز حاصل کرنے والی کینیڈا کی 50 سے زیادہ میونسپلٹیوں میں ہوتا ہے اور ہم زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی اعانت اور حفاظت کے لیے وقف ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے خوبصورت شہر میں ایک صحت مندانہ اور متنوع ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے متمنی ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی میں زرگل منتقلی کے حشرات کی تحفظ کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے پروگرام اور اقدامات موجود ہیں جن کے ذریعے زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی مدد کی جا سکتی ہے، بشمول قدرتی مقامات میں اضافہ اور پولینیٹر بیڈز کی بحالی اور ان کی دیکھ بھال۔ ہم تسلیم کیے جانے پر Bee City Canada کے مشکور ہیں اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے!"

- رووینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے Bee City ہونے کے اعزاز کو تقویت پہنچانے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ زرگل منتقلی کے حامل حشرات ہماری قدرتی غذائی پیداوار کے لیے نہایت اہم ہیں اور ان سے ہمارے رہنے کی جگہ صحت مندانہ بن جاتی ہے اور قدرتی نظام بحال رہتا ہے۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مقامی نباتات کی کاشت کریں، مقامی کسانوں کی اعانت کریں اور ہمارے اقدامات کے بارے میں [www.brampton.ca/pollinators](http://www.brampton.ca/pollinators) پر مزید جانیں"

- ڈوگ ولینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ ممبر انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر، CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ ہمارے پروگراموں اور اقدامات کو فروغ دینے اور برامپٹن کے Bee City ہونے کے اعزاز کو تقویت پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ میں اپنی کمیونٹی میں شہد کی مکھیوں اور تتلیوں جیسے زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی اعانت اور حفاظت کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)